

PRESS RELEASE

For immediate release

February 24, 2020

Pakistan's first Centralized Repository for Life Insurance Sector launched

Karachi February 24: To complement government's objectives of providing ease of doing business and enhanced consumer protection, Pakistan's first ever centralized information repository is established for life insurance sector. The repository that will function under the regulatory impetus of SECP will hold critical data of life insurance policies electronically.

Aamir Khan, Chairman SECP, Shaukat Hussain, Commissioner Insurance, Moin M. Fudda, Chairman, Centralized Depository Company (CDC), Badiuddin Akber, Chief Executive Officer, CDC, senior officials from SECP, CDC, CEOs and representatives of life insurers, non-life insurers, and relevant stakeholders attended the launching ceremony.

The Chairman SECP, Aamir Khan, in his keynote address said that the initiative would augment technological advancement in the insurance industry while ensure facilitation and protection of policyholders. He hoped that it would facilitate effective settlement of insurance claims and cause reduction in mis-selling and policy churning.

"We, at the SECP are very mindful of our responsibilities as a progressive regulator that needs to help the industry to develop and grow, and simultaneously, create linkages between its regulated sectors and the real economy", Khan said and underlined that the centralized documentation of data in digitalized form is critical to achieving transparency, speed and cost effectiveness.

He informed participants that the SECP has already embarked upon a transformational journey of digitalization through its recently launched initiative - 'Leading Efficiency through Automated Prowess (LEAP). This will enable 100% end-to-end automation, complete integration with multiple government agencies for one-time registration, and digitalization and storage of financial statements of companies through introduction of Extensible Business Reporting Language (XBRL).

The Centralized Repository will enable electronic storage of life insurance and family takaful policies and serve as central point for critical policyholder related information. It will aid the underwriting function of the insurers to determine the appropriateness of an insurance policy, the level of insurance coverage and affordability of the insurance policy for the customer which will ultimately result in need-based selling and substantial reduction in mis-selling.

لائف انشورنس سیکٹر کے لئے پاکستان کی پہلی سینٹرلائزڈ انفرمیشن ریپازٹری قائم

انشورنس ریپازٹری سے شفافیت، انشورنس کلیم کی تیز تر ادائیگی ممکن ہوگی؛ عامر خان، چیئرمین ایس ای سی پی

اسلام آباد (فروری 24) ملک میں انشورنس کے فروغ اور پالیسی ہولڈروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے پیش نظر، انشورنس سیکٹر کے لئے پاکستان کی

پہلی سینٹرلائزڈ ریپازٹری قائم کی گئی ہے۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی میں قائم کی گئی اس ڈیجیٹل ریپازٹری میں ملک کے تمام انشورنس پالیسی

ہولڈروں کا اہم ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن کے زیر نگرانی قائم اس ریپازٹری سے انشورنس پالیسیوں کی ادائیگی میں شفافیت اور تیزی آئے گی جبکہ کمپنیوں کے لئے ریگولیٹری قواعد و ضوابط پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔

انشورنس ریپازٹری کی افتتاحی تقریب میں چیئرمین ایس ای سی پی، عامر خان، کمشنر انشورنس شوکت حسین، چیئرمین سینٹر لائرڈڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) معین فدا، چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ڈی سی بدیع دین اکبر اور لائف انشورنس کمپنیوں کے سنیئر نمائندوں اور انڈسٹری کے دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایس ای سی پی عامر خان نے کہا کہ ڈیجیٹل انشورنس ریپازٹری کا قیام انشورنس انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ حاصل ہوگا جبکہ پالیسی ہولڈروں کی آسانی اور تحفظ ملے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے انشورنس کمپنیوں اور انشورنس پالیسی ہولڈروں کے مابین تنازعات میں کمی اور دعویٰ کے تیز تصفیہ کو یقینی بنایا جاسکے گا۔

انہوں نے شرکاء کو بتایا کہ ایس ای سی پی کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ ایس ای سی پی کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کی منصوبہ کو نام لیپ (LEAP) کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت ادارے کے تمام ریگولیٹری تقاضوں، ضابطوں اور تمام تر داخلی طریق کار کو ڈیجیٹل کر دیا جائے گا جس سے صارفین کو ایک مکمل شفاف، مستعد اور سہل ریگولیٹری انوائرنمنٹ میسر آئے گا۔

انشورنس سیکٹر کے لئے قائم کی گئی یہ مرکزی ریپازٹری انڈسٹری کے لئے معلومات کے ذخیرہ کے طور پر کام کرے گی جہاں پر تمام لائف انشورنس اور فیملی تکافل پالیسی ہولڈروں کا ڈیٹا موجود ہوگا۔ یہ معلومات تمام کمپنیوں کو دستیاب ہوں گی جس سے وہ اپنے صارفین کی پہچان کی شرائط کو پورا کر سکیں گی جبکہ صارفین کا ڈیٹا قائم کرنے پر اٹھنے والے اخراجات میں بھی کمی واقع ہوگی جس کو فائدہ صارفین اور پالیسی ہولڈروں کو ہوگا۔